



Silver Cross®

# RIDE-ON BOARD


Instruction Manual










**IMPORTANT – READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
BEFORE USE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

















**DUNE**



**REEF**







## ENG



These instructions are important.

## **!**WARNING

**NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED  
ENSURE ALL LOCKING DEVICES  
ARE ENGAGED BEFORE USE.**

**THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE  
FOR RUNNING OR SKATING**

**DO NOT OVERLOAD THIS PRODUCT. FAILURE  
TO DO SO MAY CAUSE A HAZARDOUS  
UNSTABLE CONDITION TO EXIST**

**DO NOT CARRY MORE THAN ONE  
CHILD ON THIS RIDE-ON BOARD.**

**MAXIMUM CAPACITY FOR RIDE-  
ON BOARD: 20KG (44LBS).**

**STROLLER CAN TIP IF CHILD ATTEMPTS  
TO HANG FROM STROLLER HANDLE  
ALWAYS KEEP YOUR HANDS ON THE  
STROLLER WHEN YOUR CHILD IS  
STANDING ON THE RIDE-ON BOARD**

**BEFORE EACH USE, CHECK RIDE-ON BOARD  
ATTACHMENT TO STROLLER BY LIFTING UP RIDE-  
ON BOARD AND CHECKING ATTACHMENTS**

**BUL**

Тези инструкции са важни.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО СИ БЕЗ НАДЗОР ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАКЛЮЧВАЩИ УСТРОЙСТВА СА ПРИЛОЖЕНИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА БЯГАНЕ ИЛИ ПЪРЗАЛЯНЕ. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНА НЕСТАБИЛНОСТ НЕ ВОЗЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ДЕТЕ НА RIDE-ON BOARD.

МАКСИМАЛЕН ТОВАР ЗА RIDE-ON BOARD: 20 КГ  
КОЛИЧКАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОБЪРНЕ, АКО ДЕТЕТО СЕ ОПИТА ДА СЕ ПРОВЕСИ НА ДРЪЖКАТА ВИНАГИ ДРЪЖТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВЪРХУ КОЛИЧКАТА, КОГАТО ДЕТЕТО ВИ Е ВЪРХУ RIDE-ON BOARD ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗАКРЕПВАНЕТО НА RIDE-ON BOARD КЪМ КОЛИЧКАТА. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПОВДИГНЕТЕ RIDE-ON BOARD И ДА ПРОВЕРИТЕ ПРИКРЕПЯЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.

**CES**

Tyto pokyny jsou důležité.

**⚠ VÝSTRAHA**

НИКDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU VŠECHNA BLOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÁ. VÝSTRAHA: TENTO VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO BĚH NEBO BRUSLENÍ. TENTO VÝROBEK NIKDY NEPŘETĚŽUJTE. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K NEBEZPEČNÉMU NESTABILNÍMU STAVU NA TOMTO STUPÁTKU NIKDY NEVOZTE VÍCE NEŽ JEDNO DÍTĚ.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA STUPÁTKA (RIDE-ON BOARD): 20 KG.

POKUD SE DÍTĚ POKUSÍ ZAVĚSIT NA RUKOJET, KOČÁREK SE MŮŽE PŘEVŘÁTIT KDYŽ DÍTĚ STOJÍ NA STUPÁTKU, VŽDY MĚJTE RUCI NA KOČÁRKU PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE ŘÁDNÉ PŘIPEVNĚNÍ STUPÁTKA KE KOČÁRKU.

**DAN**

Disse instruktioner er vigtige.

**⚠ ADVARSEL**

EFTERLAD ALDRIG BARNET UDEN OPSYN KONTROLLÉR, AT ALLE LÅSEENHEDERNE ER AKTIVERET FØR BRUG.

ADVARSEL! PRODUKTET ER IKKE BEREGNET TIL LØB ELLER RULLESKØJTELØB. PRODUKTET MÅ IKKE OVERBELASTES. GØRES DETTE KAN DER OPSTÅ

**USTABILITET, HVILKET ER FARLIGT  
DER MÅ IKKE VÆRE MERE END  
ÉT BARN PÅ STÅBRÆTTET.**

**MAKSIMAL KAPACITET FOR  
STÅBRÆT: 20 KG (44 LBS).**

**VOGNEN KAN VÆLTE, HVIS BARNET  
FORSØGER AF HÆNGE I VOGNENS STYR.  
HOLD ALTID BEGGE HÆNDER PÅ STYRET,  
NÅR DIT BARN STÅR PÅ STÅBRÆTTET  
FØR HVER BRUG SKAL DU KONTROLLERE, AT  
STÅBRÆTTET ER FORSVARLIGT FASTGJORT  
PÅ VOGNEN VED AT LØFTE STÅBRÆTTET  
OPAD OG EFTERSE FASTGØRELSEN.**

## DEU



DUNE/REEF

Diese Gebrauchsanweisung ist wichtig.

## ACHTUNG

**LASSEN SIE DAS KIND NIE UNBEAUF SICHTIGT  
PRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH,  
DASS ALLE SPERRVORRICHTUNGEN  
RICHTIG EINGERASTET SIND.**

**ACHTUNG: DIESES PRODUKT EIGNET SICH  
NICHT ZUM JOGGEN ODER SKATEN.**

**ÜBERLASTEN SIE DIESES PRODUKT NICHT.  
NICHTBEACHTUNG KANN ZU EINEM  
GEFÄHRLICHEN, INSTABILEN ZUSTAND FÜHREN  
TRANSPORTIEREN SIE MIT DIESEM BUGGY  
BOARD NICHT MEHR ALS EIN KIND  
MAXIMALE KAPAZITÄT DES BUGGY**

**BOARDS: 20 KG (44 LB).**

**DER BUGGY KANN UMKIPPEN, WENN  
DAS KIND VERSUCHT, SICH AN DEN  
BUGGYGRIFF ZU HÄNGEN**

**BEHALTEN SIE IMMER IHRE HÄNDE AM BUGGY,  
WENN IHR KIND AUF DEM BUGGY BOARD STEHT  
ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDEM GEBRAUCH, DASS  
DAS BUGGY BOARD AM BUGGY BEFESTIGT  
IST, INDEM SIE DAS BUGGY BOARD ANHEBEN  
UND DIE BEFESTIGUNGEN PRÜFEN.**

## EST



DUNE/REEF

Need juhised on olulised.

## HOIATUS

**ÄRGE JÄTKE KUNAGI OMA  
LAST JÄRELEVALVETA!**

**ENNE KASUTAMIST VEENDUGE, ET KÕIK  
LUKUSTUSSEADMED OLEKS FIKSEERITUD.**

**HOIATUS! SEE TOODE EI SOBI  
JOOKSMISEKS EGA LIULASKMISEKS.**

**ÄRGE KOORMAKE SEDA TOODET LIIGSELT.  
VASTASEL KORRAL VÕIB SEE MUUTUDA  
OHTLIKULT EBASTABIILSEKS.**

**ÄRGE LASKE SËLLEL SEISULAUAL SEISTA  
ROHKEM KUI ÜHEL LAPSEL.**

**SEISULAUJA MAKSIMAALNE  
KANDEVÕIME: 20 KG (44 NAELA).**

**JALUTUSKÄRU VÕIB KÜLILI VÄJUDA, KUI LAPS  
PÜÜAB SELLE KÄEPIDEME KÜLJES RIPPUDA.**

**HOIDKE ALATI JALUTUSKÄRUST KINNI,  
KUI LAPS SEISAB SEISULAUAL.  
ENNE KASUTAMIST KONTROLLIGE SEISULAUA JA  
JALUTUSKÄRU KINNITUST, TÖSTES SEISULAUA  
ÜLES JA VAADATES SELLE KINNITUSED ÜLE.**

**FIN**



Nämä ohjeet ovat tärkeitä.

## **VAROITUS**

**LASTA EI SAA MILLOINKAAN  
JÄTTÄÄ VARTIOIMATTA  
VARMISTA, ETTÄ KAIKKI LUKITUSVÄLINEET  
OVAT LUKITTUINA ENNEN KÄYTTÖÄ.  
VAROITUS: TÄMÄ TUOTE EI SOVELLU  
KÄYTETTÄVÄKSI JUOSTAESSA  
TAI LUISTELTAESSA.  
ÄLÄ YLIKUORMITA TÄTÄ TUOTETTA.  
YLIKUORMITUS SAATTAA JOHTAA  
VAARALLISEEN EPÄVAKAUTEEN  
ÄLÄ KULJETA TÄLLÄ SEISOMALAUDALLA  
USEAMPAA KUIN YHTÄ LASTA.  
SEISOMALAUDAN MAKSIMIKUORMITUS: 20 KG.  
RATTAAT VOIVAT KAATUA, JOS LAPSI YRITTÄÄ  
ROIKKUA RATAIDEN TYÖNTÖAISASTA  
PIDÄ AINA RATAISTA KIINNI, KUN  
LAPSI SEISOO SEISOMALAUDALLA  
TARKASTA SEISOMALAUDAN KIINNITYS  
RATTAISIIN ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA  
NOSTAMALLA SEISOMALAUTAA JA  
TARKASTAMALLA KIINNITYKSET.**

**FRA**



Ce mode d'emploi est important.

## **VAROITUS**

**NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT  
SANS SURVEILLANCE.  
VÉRIFIEZ QUE TOUS LES DISPOSITIFS DE  
VERROUILLAGE SONT ENGAGÉS AVANT  
D'UTILISER VOTRE SYSTÈME DE TRANSPORT.  
AVERTISSEMENT : CE PRODUIT NE CONVIENT  
PAS POUR FAIRE DU JOGGING OU DES  
PROMENADES EN ROLLERS. CONFORME  
AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ.  
NE SURCHARGEZ PAS CE PRODUIT. LE  
NON-RESPECT DE CETTE INSTRUCTION  
PEUT ENTRAÎNER UN ENVIRONNEMENT  
INSTABLE ET DANGEREUX  
NE TRANSPORTEZ PAS PLUS D'UN ENFANT  
SUR CETTE PLANCHE À ROULETTES.  
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA PLANCHE  
À ROULETTES : 20 KG.  
LA POUSETTE PEUT BASCULER SI L'ENFANT SE  
SUSPEND À LA POIGNÉE DE LA POUSETTE  
TENEZ TOUJOURS LA POUSETTE  
LORSQUE VOTRE ENFANT SE TIENT DEBOUT  
SUR LA PLANCHE À ROULETTES.  
AVANT CHAQUE UTILISATION, VÉRIFIEZ  
QUE LA PLANCHE À ROULETTES EST BIEN  
ATTACHÉE À LA POUSETTE EN SOULEVANT LA  
PLANCHE ET EN VÉRIFIANT LES FIXATIONS.**

**GLE**

DUNE/REEF

Tá na treoracha seo tábhachtach.

**⚠ RABHADH**

**NÁ FÁG DO LEANBH INA AONAR RIAMH.**

**CINNŢIGH GO BHFUIL NA FEISTÍ GLASÁLA GO LÉIR CUMSAIŢHE SULA MBAINTEAR ÚSÁID AS AN TÁIRGE.**

**RABHADH: NÍL AN TÁIRGE SEO OIRIÚNACH DO SCÁTÁIL NÁ RITH.**

**NÁ DÉAN AN TÁIRGE A RÓLUCHTÚ. MÁ DHÉANTAR É A RÓLUCHTÚ FEADFAIDH SÉ SIN A BHEITH GUaiseach Ó THAOBH NA SEASMHACHTA DE**

**NÁ HIOMPAIR ACH LEANBH AMHÁIN AR AN GCLÁR BUGAÍ**

**UASTOILLEADH AN CHLÁIR BUGAÍ: 20KG (44LB).**

**MÁ DHÉANANN AN LEANBH IARRACHT CROCHADH Ó HANLA AN NAÍCHÓISTE FEADFAIDH AN NAÍCHÓISTE CLAONADH**

**BÍODH GREIM AGAT AR AN NAÍCHÓISTE I GCÓNAÍ AGUS DO LEANBH INA SHEASAMH AR AN GCLÁR BUGAÍ**

**DÉAN SCRÚDÚ AR CHEANGAL AN CHLÁIR BUGAÍ LEIS AN NAÍCHÓISTE SULA MBAINTEAR ÚSÁID AS; CHUN É SIN A DHÉANAMH ARDAIGH AN CLÁR BUGAÍ AGUS DÉAN SCRÚDÚ AR NA CEANGAIL**

**GRE**

DUNE/REEF

Αυτές οι οδηγίες είναι σημαντικές.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ Η ΠΑΤΙΝΙΑ.**

**ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΣΤΑΘΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ RIDE-ON BOARD ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ RIDE-ON-BOARD: 20 ΚΙΛΑ (44 ΛΙΒΡΕΣ).**

**ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ**

**ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ RIDE-ON BOARD**

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ RIDE-ON BOARD ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**



**HRV**

DUNE/REEF

Te su upute važne.

## UPOZORENJE

NIKADA NE OSTAVLJAJTE DIJETE BEZ NADZORA PRIJE UPOTREBE. PROVJERITE JESU LI SVI MEHANIZMI ZA ZAKLJUČAVANJE AKTIVIRANI.

UPOZORENJE: OVAJ PROIZVOD NIJE PRIKLADAN ZA TRČANJE NI ROLANJE.

NEMOJTE PREOPTERETITI OVAJ PROIZVOD. AKO TO NE UČINITE, MOŽE DOĆI DO STANJA OPASNE NESTABILNOSTI

NEMOJTE VOZITI VIŠE OD JEDNOG DIJETETA NA OVOM POSTOLJU ZA VOŽNJU MAKSIMALNI KAPACITET POSTOLJA ZA VOŽNJU: 20 KG (44 LBS).

KOLIČA SE MOGU PREVRNUTI AKO DIJETE POKUŠA VISITI S RUČKE KOLICA

UVIJEK DRŽITE RUKE NA KOLICIMA KADA VAŠE DIJETE STOJI NA POSTOLJU ZA VOŽNJU

PRIJE SVAKE UPOTREBE, PROVJERITE PRIČVRŠĆENOST POSTOLJA ZA VOŽNJU NA KOLIČA TAKO DA PODIGNETE POSTOLJE ZA VOŽNJU I PROVJERITE PRIČVRŠĆENOST.

**ICE**

DUNE/REEF

Þessar leiðbeiningar eru mikilvægar.

## VIÐVÖRUN:

ALDREI MÁ SKILJA BARN EFTIR ÁN EFTIRLITS GANGIÐ ÚR SKUGGA UM AÐ ALLUR LÁSBÚNAÐUR SÉ Á FYRIR NOTKUN.

VIÐVÖRUN: EKKI SKAL HLAUPA EÐA RENNA SÉR Á SKAUTUM EÐA HJÓLABRETTI VIÐ NOTKUN ÞESSARAR VÖRU.

GÆTA VERÐUR ÞESS AÐ SETJA EKKI OF MIKLA ÞYNGD Á ÞESSA VÖRU. EF ÞAÐ ER GERT GETUR ÞAÐ VALDIÐ HÆTTULEGUM AÐSTÆÐUM

EKKI MÁ Hafa fleiri en eitt barn í kerrunni í einu

HÁMARKSBURÐARGETA SYSTKINAPALLSINS: 20 KG.

KERRUNNI GETUR HVOLFT EF BARN REYNIÐ AÐ HANGA Í HANDFANGI KERRUNNAR

HAFÐU ÆVINLEGA HENDURNAR Á KERRUNNI ÞEGAR BARNIÐ STENDUR Á SYSTKINAPALLINUM FYRIR HVERJA NOTKUN SKAL GANGA ÚR SKUGGA UM AÐ SYSTKINAPALLURINN SÉ TRYGGILEGA FESTUR VIÐ KERRUNA MEÐ ÞVI AÐ LYFTA PALLINUM UPP OG SKOÐA FESTINGARNAR

**IND**

DUNE/REEF

Petunjuk ini sangat penting.

## PERINGATAN

JANGAN SEKALI-KALI MENINGGALKAN ANAK ANDA TANPA PENGAWASAN PASTIKAN SEMUA PERANGKAT PENGUNCIAN TERPASANG SEBELUM MENGGUNAKAN.

PRODUK INI TIDAK COCOK UNTUK DIPAKAI BERLARI ATAU BERMAIN SKATING

JANGAN MENEMPATKAN MUATAN YANG BERLEBIHAN PADA PRODUK INI. TIDAK MENGIKUTI PETUNJUK INI DAPAT MENIMBULKAN KONDISI TIDAK STABIL YANG BERBAHAYA

JANGAN MEMBAWA LEBIH DARI SATU ANAK PADA PAPAN KERETA DORONG INI KAPASITAS MAKSIMUM UNTUK PAPAN KERETA DORONG: 20KG (44POUND).

KERETA BAYI DAPAT TERJUNGKIT JIKA ANAK BERGANTUNGAN PADA PEGANGAN KERETA BAYI

JANGAN LEPASKAN KERETA BAYI JIKA ANAK ANDA SEDANG BERDIRI DI PAPAN KERETA DORONG

SETIAP KALI AKAN MENGGUNAKAN, PERIKSA PEMASANGAN PAPAN KERETA DORONG KE KERETA BAYI DENGAN MENGANGKAT PAPAN KERETA DORONG DAN MEMERIKSA PEMASANGANNYA

**ITA**

DUNE/REEF

Queste istruzioni sono importanti.

## AVVERTENZA

NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. PRIMA DELL'USO, ASSICURARSI CHE TUTTI I DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO SIANO CORRETTAMENTE INNESCATI.

AVVERTENZA: IL PRODOTTO NON È ADATTO PER CORRERE O PATTINARE.

NON SOVRACCARICARE IL PRODOTTO. IN CASO CONTRARIO, POTREBBE VERIFICARSI UNA CONDIZIONE DI INSTABILITÀ E PERICOLO NON TRASPORTARE PIÙ DI UN BAMBINO SU QUESTA PEDANA.

CAPACITÀ MASSIMA DELLA PEDANA: 20 KG.

IL PASSEGGINO POTREBBE RIBALTARSI SE IL BAMBINO SI APPENDE AL MANUBRIO

UN ADULTO DEVE SEMPRE TENERE LE MANI SUL PASSEGGINO QUANDO IL BAMBINO SI TROVA SULLA PEDANA

PRIMA DELL'USO, SOLLEVARE LA PEDANA PER CONTROLLARE SE I DISPOSITIVI DI ATTACCO AL PASSEGGINO SIANO CORRETTAMENTE INSERITI

## JPN



この安全注意事項は重要です。

## ⚠️ 安全注

お子様を放置しないでください

ご使用前には、すべてのロックが作動していることを確認してください。

警告: 本製品は走りながらや滑らせながらの使用には適しません。

本製品の制限荷重を超えないでください。これに従わないと、不安定になり危険な状態となります。

ライド・オン・ボードには複数のお子様を乗せないでください。

ライド・オン・ボードの最大容量: 20kg (44lbs)。

お子様がベビーカーのハンドルにぶら下がるうとすると、ひっくり返る恐れがあります。

お子様がライド・オン・ボードに乗っている場合は、ベビーカーから手を離さないでください。

ご使用の都度、ライド・オン・ボードを持ち上げてアタッチメントをチェックし、正しくベビーカーに接続されていることを確認してください。

## KOR



이 지침은 중요합니다.

## ⚠️ 경고

자녀를 절대 혼자 두지 마십시오.

사용하기 전에 모든 잠금 장치가 확실히 잠겨 있는지 확인하십시오.

본 제품은 달리기나 스케이트에 적합하지 않습니다.

제품에 과도하게 적재하지 마십시오. 그렇지 않으면 본체가 불안정해져 위험할 수 있습니다.  
유모차 연결보드에 자녀를 한 명 이상 태우지 마십시오.  
유모차 연결보드 최대 하중: 20KG (44LBS).  
자녀가 유모차 손잡이에 매달리면 유모차가 기울어질 수도 있습니다.  
자녀가 유모차 연결보드에 서 있을 때는 항상 유모차 손잡이를 잡고 있어야 합니다.  
제품 사용 전에 유모차 연결보드를 들어올려 연결보드가 단단하게 부착되었는지 확인해 주십시오.

## LAV



Šīs norādes ir ļoti svarīgas.

## ⚠️ BRĪDINĀJUMS

NEKAD NEATSTĀJIET BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS PIRMS LIETOŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA FIKSĀCIJAS MEHĀNISMI IR NOSLĒGTI.

BRĪDINĀJUMS. ŠIS IZSTRĀDĀJUMS NAV PIEMĒROTŠ SKRIEŠANAI VAI BRAUKŠANAI AR SKRITUĻDĒLI.

NEPĀRSLOGOJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU, LAI NEIZRAISĪTU BĪSTAMU UN NESTABILU STĀVOKLI UZ ŠĪ RIDE-ON BOARD NĒPĀRVADĀJIET VAIRĀK NEKĀ VIENU BĒRNU.

RIDE-ON BOARD MAKSIMĀLĀ NOSLODZE: 20 KG (44 MĀRC.).

JA BĒRNS MĒĢINA KARĀTIES PIE RATIŅU ROKTURA, RATIŅI VAR APGĀZTIES KAD BĒRNS STĀV UZ RIDE-ON BOARD, VIENMĒR TURIET ROKAS PIE RATIŅIEM

**PIRMS KATRAS LIETOŠANAS PĀRBAUDIET  
RIDE-ON BOARD STIPRINĀJUMU PIE  
RATIŅIEM, PACĒĻOT AUGŠUP RIDE-ON  
BOARD UN PĀRBAUDOT STIPRINĀJUMUS.**

**LIT**



Šie nurodymai yra svarbūs.

## **ĪSPĒJIMAS**

NEKĀDA NEPALIKITE VAIKO BE PRIEŽIŪROS  
PRIĒŠ NAUDODAMI ĪSITIKINKITE, KAD  
VISI FIKSAVIMO ĪTAĪŠAI YRA ĪJUNGTI.

ĪSPĒJIMAS: ŠĪS GAMINYS NĒRA SKIRTAS  
NAUDŌTI BĒGIOJANT, ĪĪUŌZĪNĒJANT  
AR VAZĪNĒJANTIS RĒDUCĪAIS.

NEPERKRAUKITE GAMINIO. NEPAISANT ŠĪO  
ĪSPĒJĪMO GALĪMAS PAVOJĪNGAS NESTABILUMAS.  
NEVEŌŅKITE ANT ŠĪOS PAPĪLDOMOS PAKOPOS  
VEŌZĪMĒLIUI DAUGĪAU NEĪ VIENO VAIKO.

MAĶSĪMALĪ PAPĪLDOMOS PAKOPOS  
VEŌZĪMĒLIUI APKROVA: 20 KG (44 SVAR.).

JEĪ VAIKAS BANDĪS PAKĪBTĪ ANT VEŌZĪMĒĪO  
RANKENOS, VEŌZĪMĒĪS GALĪ APVĪRSTĪ.

VĪSĀDĀ LAĪKYKĪTE RANKAS ANT  
VEŌZĪMĒĪO, KĀĪ VAIKAS STŌVĪ ANT  
PĀPĪLDOMOS PAKOPOS VEŌZĪMĒLIUI.

PRIĒŠ KĪEKVIENĀ NAUDŌJĪMĀ, PATĪKRĪNKĪTE  
PĀPĪLDOMOS PAKOPOS VEŌZĪMĒLIUI  
TVĪRTĪNĪMĀ PRIĒ VEŌZĪMĒĪO, PĀKĒLDĀMĪ  
PĀKOPĀ ĪR PATĪKRĪNDĀMĪ ĪUNGTĪS.

**MLT**



Dawn I-istruzzjonijiet huma importanti.

## **TWISSIJA**

QATT THALLI LIT-TFAL TIEGHEK WAHEDHOM  
MINGHAJR SORVELJANZA

ŌGURA LI L-APPARATI TAL-ILLOKKJAR  
IKUNU ATTIVATI QABEL L-UŌU.

TWISSIJA: DAN IL-PRODOTT MHUWIEK  
ADEGWAT GHALL-GIRI JEW SKEJTJAR.

TGHABBIX DAN IL-PRODOTT B'AKTAR MILLI JIFLAH.  
IN-NUQQAS LI TAGHMEL DAN JISTA' JWASSAL GHAL  
KUNDIZZJONI MHUX STABBLI U PERIKOLUZA

M'GHANDEKX GGORR AKTAR MINN TIFEL  
WIEHED FUQ DAN IR-RIDE-ON BOARD  
KAPACITĀ MASSIMA TAR-RIDE-ON  
BOARD: 20KG (44LBS).

IL-PRAMM TISTA' TINQALEB JEKK IT-TFAL  
JĪGBDU MAL-MANKU TAL-PRAMM

DEJJEM ŌOMM IDEJK FUQ IL-PRAMM META T-TFAL  
TIEGHEK IKUNU BILWIEQFA FUQ IR-RIDE-ON BOARD  
QABEL KULL UŌU, ĪĪĒĒKKJA LI R-RIDE-ON BOARD  
QIEGHED IMWAHHAL MAL-PRAMM BILLI TGHOLLI  
R-RIDE-ON BOARD U TĪĒĒKKJA L-IRBIT.

**NLD**

Deze instructies zijn belangrijk.

**⚠ WAARSCHUWING**

LAAT UW KIND NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER  
CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK DAT ALLE  
VERGREDELINGSMIDDELEN ZIJN VASTGEZET.  
WAARSCHUWING: DIT PRODUCT IS NIET GESCHIKT  
OM MEE TE HARDLOPEN OF SKATEN.

GEBRUIK DIT PRODUCT NIET ALS HET MAXIMALE  
GEWICHT VOOR HET PRODUCT BEREIKT IS. HET  
NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIE KAN LEIDEN  
TOT EEN GEVAARLIJKE, ONSTABIELE SITUATIE.

LAAT NIET MEER DAN ÉÉN KIND OP  
DIT RIDE-ON BOARD STAAN.

MAXIMALE CAPACITEIT VOOR  
RIDE-ON BOARD: 20 KG.

DE WANDELWAGEN KAN OMVALLEN ALS EEN  
KIND AAN DE HANDGREEP GAAT HANGEN.

HOUD ALTIJD UW HANDEN OP DE WANDELWAGEN  
WANNEER UW KIND OP HET RIDE-ON BOARD STAAT.  
GA VOOR ELK GEBRUIK NA OF HET RIDE-ON BOARD  
GOED AAN DE WANDELWAGEN IS BEVESTIGD  
DOOR HET RIDE-ON BOARD OP TE TILLEN EN  
DE BEVESTIGINGEN TE CONTROLEREN.

**NOR**

Disse anvisningene er viktige.

**⚠ ADVARSEL**

FORLAT ALDRI BARNET DITT UTEN TILSYN  
KONTROLLER AT ALLE LÅSEMEKANISMER  
ER INNKOBLET FØR BRUK.

ADVARSEL: DETTE PRODUKTET EGNER SEG  
IKKE FOR LØPING ELLER SKØYTING.

IKKE OVERBELAST DETTE PRODUKTET. HVIS  
DU UNNLATER Å GJØRE DETTE, KAN DET FØRE  
TIL EN FARLIG OG USTABIL SITUASJON

IKKE TRANSPORTER MER ENN ETT  
BARN PÅ RIDE-ON BOARD.

MAKSIMAL KAPASITET FOR RIDE-ON BOARD: 20 KG

SPORTSVOGNEN KAN VELTE HVIS BARNET  
PRØVER Å HENGE FRA VOGNENS HÅNDTAK  
HOLD ALLTID HENDENE FAST I SPORTSVOGNEN  
NÅR BARNET STÅR OPPREIST I RIDE-ON BOARD  
FØR HVER BRUK MÅ DU ALLTID KONTROLLERE  
SPORTSVOGNENS RIDE-ON BOARD-  
TILBEHØR VED Å LØFTE OPP RIDE-ON  
BOARD OG SJEKKE TILBEHØRET.

**POL**

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje.

**⚠ OSTRZEŻENIE**

NIGDY NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ

**DZIECKA BEZ NADZORU  
NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZED  
UŻYCIEM ZASTOSOWANO WSZYSTKIE  
ELEMENTY BLOKUJĄCE.**

**OSTRZEŻENIE: PRODUKT JEST  
NIEODPOWIEDNI DO UŻYCIA PODCZAS  
BIEGANIA LUB JAZDY NA ROLKACH.**

**NIE NALEŻY PRZECIĄGAĆ TEGO PRODUKTU. W  
PRZECIWNYM RAZIE MOŻE BYĆ ON NIESTABILNY  
CO BĘDZIE ZAGRAŻAŁO BEZPIECZEŃSTWU**

**NA DOSTAWCE MOŻNA PRZEWOZIĆ  
TYLKO JEDNO DZIECKO**

**MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE  
DOSTAWKI DO WÓZKA: 20 KG.**

**WÓZEK MOŻE SIĘ PRZEWROCIĆ, JEŚLI DZIECKO  
BĘDZIE PRÓBOWAŁO ZŁAPAĆ ZA RĄCZKĘ WÓZKA**

**ZAWSZE TRZYMAJ RĘCE NA WÓZKU,  
GDY DZIECKO STOI NA DOSTAWCE**

**PRZED KAŻDYM UŻYCIEM, NALEŻY SPRAWDZIĆ  
ZAMOCOWANIE DOSTAWKI DO WÓZKA PRZEZ JEJ  
PODNIESIENIE I SPRAWDZENIE ZAMOCOWAŃ**

**POR**



Estas instruções são importantes.

**! OSTRZEŻENIE**

**NUNCA DEIXE O SEU FILHO SEM SUPERVISÃO  
CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS  
DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO ESTÃO  
ENGATADOS ANTES DE USAR.**

**AVISO: ESTE PRODUTO NÃO É ADEQUADO  
PARA CORRER NEM PRATICAR SKATE.  
NUNCA COLOQUE DEMASIADA CARGA SOBRE  
ESTE PRODUTO. O NÃO CUMPRIMENTO  
DESTAS INDICAÇÕES PODE LEVAR À  
OCORRÊNCIA DE INSTABILIDADE  
NÃO TRANSPORTE MAIS DO QUE UMA  
CRIANÇA NESTE RIDE-ON BOARD  
CAPACIDADE MÁXIMA DO RIDE-ON  
BOARD: 20KG (44LBS).**

**O CARRINHO PODERÁ CAIR SE A CRIANÇA SE  
TENTAR PENDURAR PELA PEGA DO CARRINHO  
MANTENHA SEMPRE AS SUAS MÃOS  
NO CARRINHO ENQUANTO A CRIANÇA  
ESTIVER DE PÉ NO RIDE-ON BOARD  
ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE O  
ACOPLAMENTO DO RIDE-ON BOARD COM O  
CARRINHO AO LEVANTAR O RIDE-ON BOARD  
E VERIFICAR OS ACOPLAMENTOS.**

**RUS**



**СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА СЛУЧАЙ  
НЕОБХОДИМОСТИ.**

**! ВНИМАНИЕ!**

**НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ  
РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.  
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ  
В ТОМ, ЧТО ВСЕ МЕХАНИЗМЫ  
БЛОКИРОВКИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ.**

**ВНИМАНИЕ! С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ НЕЛЬЗЯ БЕГАТЬ И КАТАТЬСЯ НА РОЛИКАХ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕГРУЗКИ ИЗДЕЛИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОСТОЯНИЮ ОПАСНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ**

**ПОДНОЖКА RIDE-ON BOARD ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОЛЬКО ОДНОГО РЕБЕНКА**

**МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОДНОЖКИ RIDE-ON BOARD: 20 КГ (44 ФУНТА).**

**КОЛЯСКА МОЖЕТ ОПРОКИНУТЬСЯ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОПЫТАЕТСЯ ПОВИСНУТЬ НА ЕЕ РУЧКЕ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ КОЛЯСКУ РУКАМИ, КОГДА РЕБЕНОК СТОИТ НА ПОДНОЖКЕ RIDE-ON BOARD**

**ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЯЙТЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОДНОЖКИ К КОЛЯСКЕ, ПРИПОДНЯВ ПОДНОЖКУ RIDE-ON BOARD.**

## SLO



DUNE/REEF

Tieto pokyny sú dôležité.

## VAROVANIE

**NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE SÚ ZAISTENÉ BLOKOVACIE ZARIADENIA.**

**VAROVANIE: VÝROBOK NIE JE VHODNÝ NA BEHANIE ANI KORČULOVANIE.**

**NEPREŤAŽUJTE TENTO VÝROBOK. INAK MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNEJ NESTABILITE.**

**NA TEJTO PLOŠINE RIDE-ON BOARD PREVÁŽAJTE LEN JEDNO DIEŤA.**

**MAXIMÁLNA KAPACITA PRE RIDE-ON BOARD: 20 KG.**

**AK SA DIEŤA POKÚSI ZAVESIŤ NA RUKOVÄŤ KOČÍKA, KOČÍK SA MÔŽE PREVRÁTIŤ.**

**KEĎ VAŠE DIEŤA STOJÍ NA PLOŠINE RIDE-ON BOARD, VŽDY MAJTE RUKY NA KOČÍKU.**

**PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE UCHYTENIE PLOŠINY RIDE-ON-BOARD KU KOČÍKU: ZDVIHNITE JU A SKONTROLUJTE PRÍSLUŠENSTVO**

## SLV



DUNE/REEF

Ta navodila so pomembna.

## OPOZORILO

**OTROKA NIKOLI NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA PRED UPORABO SE PREPŘIČAJTE, DA SO VSE NAPRAVE ZA ZAKLEPANJE AKTIVIRANE.**

**OPOZORILO: TA IZDELEK NI PRIMEREN ZA TEK ALI ROLANJE.**

**NE PREOBREMENJUJTE IZDELKA. V NASPROTNEM PRIMERU LAHKO PRIDE DO NEVARNEGA, NESTABILNEGA STANJA NA TEJ DESKI ZA VOŽNJO NE PREVAŽAJTE VEČ KOT ENEGA OTROKA**

**NAJVEČJA ZMOGLJIVOST DESKE: 20 KG (44 LBS).**

**VOZIČEK SE LAHKO PREVRNE, ČE ŠE OTROK POSKUŠA OBESITI Z ROČAJA VOZIČKA VEDNO IMEJTE ROKE NA VOZIČKU, KO VAŠ OTROK STOJI NA DESKI ZA VOŽNJO**

**PRED VSAKO UPORABO PREVERITE PRITRDITEV DESKE ZA VOŽNJO NA VOZIČKU TAKO, DA DVIGNETE DESKO ZA VOŽNJO IN PREVERITE PRITRDITVE.**

## SPA



Estas instrucciones son importantes.

## ADVERTENCIA

**NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO.**

**ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO ESTÁN ENGRANADOS ANTES DEL USO.**

**ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO ES ADECUADO PARA CORRER NI PATINAR.**

**NO SE DEBE PONER UNA CARGA EXCESIVA EN ESTE PRODUCTO. NO RESPETAR ESTA INDICACIÓN PUEDE RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD PELIGROSA.**

**NO LLEVE A MÁS DE UN NIÑO EN ESTA PLATAFORMA PARA PASEOS.**

**CAPACIDAD MÁXIMA DE LA PLATAFORMA PARA PASEOS: 20 KG.**

**LA SILLA PUEDE VOLCARSE SI EL NIÑO INTENTA COLGARSE DEL MANILLAR DE LA SILLA.**

**MANTENGA SIEMPRE LAS MANOS EN LA SILLA CUANDO SU HIJO ESTÉ DE PIE EN LA PLATAFORMA PARA PASEOS.**

**ANTES DE CADA USO, COMPRUEBE LA FIJACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA PASEOS A LA SILLA. PARA ELLO, LEVANTE LA PLATAFORMA PARA PASEOS Y COMPRUEBE LAS FIJACIONES.**

## SRP



Ova uputstva su važna.

## UPOZORENJE

**NIKAD NE OSTAVLJAJTE SVOJE DETE BEZ NADZORA**

**PROVERITE DA LI SU SVI UREĐAJI ZA ZAKLJUČAVANJE AKTIVNI PRE UPOTREBE.**

**UPOZORENJE: OVAJ PROIZVOD NIJE POGODAN ZA TRČANJE ILI KLIZANJE.**

**NEMOJTE PREOPTERETITI OVAJ PROIZVOD. U SUPROTNO, MOŽE DOĆI DO POJAVE OPASNE NESTABILNOSTI NEMOJTE VOZITI VIŠE OD JEDNOG DETETA NA OVOM POSTOLJU ZA VOŽNJU.**

**MAKSIMALAN KAPACITET POSTOLJA ZA VOŽNJU: 20 KG (44 LBS).**

**KOLIČA SE MOGU PREVRNUTI AKO DETE POKUŠA DA VISI SA RUČKE KOLICA UVEK DRŽITE RUKU NA KOLICIMA KADA VAŠE DETE STOJI NA POSTOLJU ZA VOŽNJU PRE SVAKE UPOTREBE PROVERITE PRIČVRŠĆENOST POSTOLJA ZA VOŽNJU ZA KOLICA PODIZANJEM POSTOLJA ZA VOŽNJU I PROVEROM PRIČVRŠĆENJA**



**SWE**

Bruksanvisningen är viktig.

**⚠️ VARNING**

LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPSIKT.  
KONTROLLERA ATT ALLA LÅSANORDNINGAR  
ÄR I FUNKTION FÖRE ANVÄNDNING.  
VARNING: PRODUKTEN ÄR INTE  
AVSEDD ATT ANVÄNDAS VID LÖPNING  
ELLER RULLSKRIDSKOÅKNING.  
ÖVERBELASTA INTE PRODUKTEN.  
UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA  
TILL ETT FARLIGT INSTABILT TILLSTÅND  
PLACERA ALDRIG MER ÄN ETT  
BARN PÅ DENNA ÅKBRÄDA.

ÅKBRÄDANS MAXIMALA KAPACITET: 20 KG.  
BARNVAGNEN KAN VÄLTA OM BARNET  
FÖRSÖKER HÄNGA I VAGNSHANDTAGET  
HÅLL ALLTID HÄNDERNA I BARNVAGNEN  
NÄR BARNET STÅR PÅ ÅKBRÄDAN  
KONTROLLERA ÅKBRÄDANS ANSLUTNING  
TILL BARNVAGNEN FÖRE VARJE ANVÄNDNING  
GENOM ATT LYFTA UPP ÅKBRÄDAN  
OCH KONTROLLERA FÄSTENA

**THA**

คำแนะนำเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ

**⚠️ คำเตือน****ห้ามปล่อยปลະລະเลยเด็ก**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ล็อก ล็อกดีแล้วหรือไม่ก่อนการ  
ใช้งาน

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับวิ่งหรือไถล

ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินบนผลิตภัณฑ์นี้ การปฏิบัติดังกล่าวอาจ  
ทำให้เกิดสถานะอันตรายและไม่เสถียร

ห้ามให้เด็กมากกว่า 1 คนขึ้นมานบนกระดานยีนนี้

ความจุสูงสุดสำหรับกระดานยีน: 20 กก. (44 ปอนด์)

รถเข็นเด็กอาจคว่ำได้ หากเด็กพยายามห้อยโหนจากที่จับของ  
รถเข็นเด็ก

จับบนที่จับของรถเข็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเด็กยืนอยู่บน  
แผ่นยีนนี้

ก่อนใช้งานแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดติดกับรถเข็นเด็ก  
ด้วยการยกกระดานยีนและตรวจสอบอุปกรณ์ยึดติด

**TUR**

Bu talimatlar önemlidir.

**⚠️ UYARI**

ÇOCUĞUNUZU ASLA GÖZETİMSİZ BIRAKMAYIN  
KULLANIMDAN ÖNCE TÜM KİLİTLEME CİHAZLARININ  
DEVREDE OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

UYARI: BU ÜRÜN KOŞU VEYA PATEN  
İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

BU ÜRÜNE AŞIRI YÜKLEME YAPMAYIN. BUNUN  
YAPILMAMASI, TEHLİKELİ BİR KARARSIZ  
DURUMUN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR

BU RIDE-ON BOARD ÜNİTESİNDE  
BIRDEN FAZLA ÇOCUK TAŞIMAYIN.  
RIDE-ON BOARD İÇİN MAKSİMUM

**KAPASITE: 20 KG (44 LB).**  
**ÇOCUK, PUSET TUTAMAĞINDAN SARKMAYA**  
**ÇALIŞIRSA PUSET DEVRİLEBİLİR**  
**ÇOCUĞUNUZ RIDE-ON BOARD'DA AYAKTA**  
**DURURKEN ELLERİNİZİ DAİMA PUSETE TUTUN**  
**HER KULLANIMDAN ÖNCE, RIDE-ON BOARD'U**  
**YUKARI KALDIRARAK VE EK PARÇALARINI**  
**GÖZDEN GEÇİREREK PUSETE BAĞLI RIDE-ON**  
**BOARD EK PARÇASINI KONTROL EDİN**

## ZH-S

### 安全说明



## 警告

婴儿乘坐时，必须有人看护。  
 使用前，确保所有锁定装置已经 启用。  
 本产品不适合奔跑或滑冰时使用。  
 请勿在此产品上放置超重的物品。超重可能会导致  
 不稳定的安全隐患出现  
 骑行板仅限一名孩童乘用  
 骑行板最大载重量：20公斤。  
 若孩童试图拽挂推车扶手，推车可能会倾倒  
 当孩童站在骑行板上时，请您始终将手把持在推车上  
 每次使用前，请先抬起骑行板并检查连接件，以确  
 保骑行板和推车正确连接



DUNE/REEF

## ZH-T

### 安全說明



DUNE/REEF



## 警告

切勿把您的孩子留下無人看管。  
 在使用前確保已鎖好所有的鎖定裝置。  
 此產品不適用於跑步或溜冰。  
 不得過度承載此產品。未遵循此規範可能導致危險  
 和不穩定狀況  
 本 Ride-on Board 僅可承載一位兒童  
 Ride-on Board 最高負重：20 公斤（44 磅）  
 兒童試圖攀爬嬰兒車手把，嬰兒車可能會傾倒  
 子女站在 Ride-on Board 上時，您的雙手應經常扶穩  
 嬰兒車  
 每次使用 Ride-on Board 前，提起 Ride-on Board 檢查  
 它的每個和嬰兒車連接的配件

ARA

 DUNE/REEF

هذه التعليمات مهمة.

## تحذير

يجب أل يترك الطفل أبدا دون إشراف.

تحققَ دوما من أن كافة أجهزة الإغلاق قد تم تركيبها قبل الاستخدام.

تحذير: هذا المنتج غير مناسب للاستخدام أثناء الركض أو التزلج.

يجب تجنب التحميل المفرط لهذا المنتج. قد يؤدي العجز عن القيام بذلك إلى حدوث حالة عدم استقرار خطيرة.

لا يجب وضع أكثر من طفل على لوح ركوب الأطفال.

السعة القصوى للوح ركوب الأطفال: 20 كجم (44 رطلاً).

قد تتعرض عربة الأطفال للانقلاب إذا حاول الطفل أن يتعلق من مقبض العربة.

ضع يديك دائما على عربة الأطفال عندما يقف طفلك على لوح الركوب.

قبل كل استخدام، تحقق من ملحق لوح الركوب بعربة الأطفال عن طريق رفع لوحة الركوب وفحص الملحقات.

**UK**

Silver Cross (UK) Ltd.  
Micklethorn, Broughton,  
Skipton, North Yorkshire  
BD23 3JA

**EU/PACIFIC**

Silver Cross (Pacific) Ltd.  
Office 527, Lee Garden Three,  
1 Sunning Road, Causeway  
Bay, Hong Kong

Silver Cross®



The mark of  
responsible forestry

[silvercrossbaby.com](http://silvercrossbaby.com)